

پیارے نمبر ۲
سورۃ البقرۃ
رکوع نمبر ۹ (آیت نمبر ۲۱۰ - ۱۹۷)
ROOT WORDS

آیت نمبر	الفاظ	سادہ ROOT	معنی	آیت نمبر	الفاظ	سادہ ROOT	معنی
197	الْحَجَّ	ح ج ح	حج	203	سَرَّيْجٌ	س ر ع	جلدی لینے والا ہے۔
	رَفَتْ	ر ف ت	خودتوں سے رعبت کرنا		حِثَابٌ	ح س ب	حساب
	فَسُوْقٌ	ف س ق	کوئی گناہ کے کام / فسق		لَعَجَلٌ	ع ج ل	جلدی کرے
198	جُنَاحٌ	ج ن ح	کوئی گناہ	204	تُحْشَرُونَ	ح ش ر	تم اکھٹے کیے جاؤ گے۔
	أَفْشَقَةٌ	ف ی ہ	تم پلٹو		يُحْجِبُكَ	ع ج ب	جو اچھی لگتی ہے تجھ کو
	عَرَفَتْ	ع ر ف	عمرات		قَوْدٌ	ق و ل	بات اسکی
	الْمُتَّالِيْنَ	م ن ل	لے کر		الْخِمَامِ	ل د ر	سخت محلہ الو
199	وَأَسْتَخْفِرُكَ	ل غ ف ر	بجھنے میں مانگو	205	سَبَّحَ	خ ہ م	محلہ میں
	عَفْوَرٌ	ع ف ر	بخشنے والا		السَّلَ	س ع ی	کوشش کرتا ہے۔
200	قَضَيْتُمُ	ق ی ہ ی	پورے کر چکو تم	206	الْعِزَّةُ	ن س ل	سل کو
	حَنَاسِكُكُمْ	ن س ک	اپنے مناسک / حج کے طریقے		أَخَذَتْ	أ خ ذ	پکڑ لینی ہے اسکو
	الدُّنْيَا	د ن و	دنیا		الْعِزَّةُ	ع ز ر	عزت / وقار
	خَلَاقٍ	خ ل ق	کوئی حق	207	جَهَنَّمَ	ج ہ م	جہنم
201	وَقِينَا	و ق ی	بچا ہم کو		الْبُحَا	ب ہ م	بھٹانہ
202	نَحْيِبُ	ن ہ ب	ایک حصہ	208	يَشْرِي	ش ر ی	بیچنا ہے
					مَرَمَاتٍ	ر م ن و / ر م ن ی	رہنا
					السِّلْمَةُ	س ل م	اسلام میں / اطاعت میں